



## سوال

کیا رفع الیدین - آمین - فاتحہ خلف الامام منسوخ ہوگئی تھی؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آمین - رفع یدین پہلے ابتداء اسلام میں کی گئی تھیں - آخر عمر میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی - کیا اس کا یہ کہنا درست ہے - ؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ابتداء اسلام سے کیا مراد ہے مکہ شریف میں ہجرت سے پہلے یا کچھ اور - اگر مکہ شریف میں ہجرت سے پہلے کا وقت مراد ہے تو مشکوٰۃ وغیرہ میں ہجرت کے بعد کی بہت سی احادیث موجود ہیں - جن میں رفع یدین کا ذکر ہے - وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخیر زمانے میں آئے ہیں - وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا - ملاحظہ ہو - مشکوٰۃ باب صفۃ الصلوٰۃ بلکہ بیہقی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رفع یدین کرتے رہے یہاں تک کہ آپ وفات پگئے - ملاحظہ ہو تلخیص البحر - اس طرح آمین کے متعلق وائل بن حجر کی حدیث مشکوٰۃ باب القراۃ فی الصلوٰۃ فصل 2 میں موجود ہے -

اصل بات یہ ہے کہ جب تک یہ ثبوت نہ دیا جائے کہ فلاں وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے رہے یا آمین کہتے رہے اس کے بعد منسوخ ہوگئی - اس وقت تک یہ کہنا غلط ہے کہ رفع یدین ابتداء اسلام میں پہلے تھی - یہی حال فاتحہ خلف الامام کا ہے - اس کے متعلق بھی ثبوت ہونا چاہیے کہ کس وقت تک پڑھتے رہے اور کب منسوخ ہوئی تاکہ اس کے بعد پڑھنے کا ثبوت ہم دے سکیں - اور آیت کریمہ واذا قرأ القرآن سورۃ اعراف کی ہے جو کلی ہے - چنانچہ عام طور پر قرآن مجید کے نسخوں میں اس سورہ کے شروع میں یہ لکھا ہے تو پھر اس آیت سے اخیر میں منسوخ ہونے کا کیا مطلب؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولوی کوئی جاہل بلکہ اہل ہے جس نے کبھی قرآن مجید کھول کر نہیں دیکھا - انا للہ

وباللہ التوفیق



## کتاب الصلوة، نماز کی کیفیت کا بیان، ج 2 ص 123